

## FA Part 2 Home Economics Full Book Online MCQ's Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	سوتی دھاگہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے بیہڑ کے بال مونڈھ لیے جاتے ہیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں	A. شیرننگ B. کمپنگ C. واٹنگ D. کوئی نہیں
2	کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن یہ چاروں کیمیائی اجزا ہمارے جسم کا تقریباً کتنے فیصد حصہ تعمیر کرتے ہیں	A. 69% B. 58% C. 59% D. 96%
3	نمکیات ہمارے جسم کے کتنے فیصد حصہ میں پانی کی مقدار نہ بڑھنے دیتے ہیں نہ کم ہونے دیتے ہیں	A. 2 فیصد B. 4 فیصد C. 6 فیصد D. 8 فیصد
4	نمکیات کی تقریباً کتنی اقسام ہیں	A. دس B. بارہ C. سولہ D. اٹھارہ
5	پاؤں سے چلنے والی مشین کے ساتھ کیا لگا ہوتا ہے	A. سٹیپڈ B. ہتھا C. لکڑی D. شیشہ
6	سوتی ریشہ کو بکجان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے	A. کنگھا B. دھننا C. کتتا D. کھینچا
7	خوراک میں کتنے فیصد کاربوہائیڈریٹ کی موجودگی سے روغی غذاؤں کے قوت و حرارت پیدا کرنے کے عمل میں سہولت پیدا ہوتی ہے	A. 5 فیصد B. 15 فیصد C. 25 فیصد D. 50 فیصد
8	ہم سوت حاصل کرتے ہیں	A. کپاس کے پودے سے B. ریشم کے کیڑے سے C. جانوروں کی کھال سے D. لین کے پودے سے
9	خاکہ بنانے کے لیے کس چیز کا استعمال کرنا ضروری ہے	A. کاغذ اور پنسل کا B. پین کا C. سکیل کا D. چاک کا
10	دھاگے سے کپڑا بننے تک کے مراحل ہیں	A. دو B. تین C. چار D. پانچ
11	موجودہ مشینی دور میں تقریباً ہر گھر میں کیا چیز موجود ہوتی ہے	A. ٹی وی B. ریڈیو C. سلائی مشین D. فریج
12	ٹریکوائی میں پکائے کے ایسے طریقے جن میں پانی اور کس کا استعمال ناگزیر ہوتا ہے	A. آگ کا B. دھونیں کا C. بھاپ کا D. حرارت کا
13	کیلشیم کی انتہائی کمی کی صورت میں ایک خاص بیماری بھی ہوسکتی ہے جسے	A. ٹپ ڈق B. رکنس C. خناق D. ملیریا
14	گڑ یا میٹر راڈ کس کا بنا ہوتا ہے	A. +شیشے کا B. لکڑی یا پلاسٹک کا C. لوہے کا D. سٹیل کا
15	ہمارے مکمل جسم میں کتنے فیصد کیلشیم پایا جاتا ہے	A. دو فیصد B. پانچ فیصد C. سات فیصد D. نو فیصد

16	جب غذائیت کی کمی حد سے بڑھ جائے تو انسان کی جو صورتحال ہوجاتی ہے اسے	A. فزیکل نیوٹریشن B. کیمیکل مین نیوٹریشن C. الف اور ب دونوں D. کوئی نہیں.
17	پروٹین کا لفظ کس زبان سے لیا گیا ہے	A. عربی B. ترکیش C. لاطینی D. یونانی
18	پروٹین میں کیا کیشامل ہوسکتا ہے	A. لوہا اور آہٹین B. سلفر اور گندھک C. نائٹروجن D. فلئورس
19	غذا ہمارے جسم میں کیا فراہم کرتی ہے	A. قوت مدافعت B. توانائی C. حرارت D. حرکت
20	کھانا کھانے کے فرائض ہیں	A. دو B. چھ C. سٹ D. دس